

اپنے بچے کی حاضری کو بہتر بنانے کا طریقہ



معمولات

01

سونے سے پہلے اور
اسکول سے پہلے
ایک واضح معمول
بنائیں۔

برائے مہربانی صبح
8:40 بجے اسکول کے
احاطے میں پہنچیں۔

02



وقت پر
پہنچیں۔



آگے کی منصوبہ
بندی کریں۔

03

اسکول کے بعد ڈاکٹر
یا دیگر ملاقاتیں بک
کریں۔

کسی بھی بیماری کے
لئے، اگر آپ کو یقین
نہیں ہے کہ آپ کا بچہ
اسکول میں ہونا
چاہئے، تو براہ مہربانی
ہمیں کال کریں۔

04



مشورے کے لیے ہم
سے رابطہ کریں۔